

ہولی گرو اسکول نیوز لیٹر



24 جون 2024



[/www.holly-grove.lancs.sch.uk](http://www.holly-grove.lancs.sch.uk) / www.facebook.com



ہمیں امید ہے کہ آپ کا ویک اینڈ بہت اچھا گزرا!



اگر آپ نیوز لیٹر پر کوئی خبر شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ فوٹو وغیرہ کو newsletter@holly-grove.lancs.sch.uk پر ای میل کر سکتے ہیں۔



مکاتن ورکشاپ

ہماری پیرنٹ میکانٹون ورکشاپ اس جمعہ، 28 جون کو دوپہر 1:30 بجے تا 2:30 بجے منعقد ہوگی۔ اگر آپ نے شرکت کے لیے بکنگ کرائی ہے، تو براہ کرم اسکول کے استقبال کے لیے اپنا راستہ بنائیں اور عملے کا ایک رکن آپ سے وہاں ملے گا۔
ہم آپ کو دیکھنے کے منتظر ہیں!



Holly Grove Staff are
CLIMBING BEN NEVIS

SATURDAY 7TH SEPTEMBER 2024

SUMMIT
OR
NOTHING!



PLEASE HELP US REACH OUR
GOAL OF £2000



ہیئر ڈریسر پیر 24 جون اور منگل 25 جون 2024 کو اسکول میں ہوگا۔

اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اپنے بال کٹوائے، تو براہ کرم آپ کے نام کے ساتھ اسکول اسپائیڈر کے پیغام کا جواب دیں اور اس میں کوئی ضروریات شامل کریں۔



خلائی مرکز

بچھلے ہفتے، ربیکا کی کلاس نے خلائی مرکز کے ایکشن سے بھرپور دورے کا لطف اٹھایا۔ انہوں نے دوپستوں اور عملے کے ساتھ معیاری وقت گزارنے میں بہت اچھا وقت گزارا۔

جیسا کہ آپ تصاویر سے دیکھ سکتے ہیں، دن تفریح، مسکراہٹوں اور ہنسی سے بھرا ہوا تھا۔



امیلیا اور اس کے اہل خانہ نے پرتگال میں اپنی حالیہ چھٹیوں کی کچھ تصاویر شیئر کی ہیں۔ امیلیا نے تالاب میں کھیلتے ہوئے بہت اچھا وقت گزارا اور بہت سے نئے دوست بنائے۔ امیلیا کی ماں کو اس بات پر بہت فخر ہے کہ امیلیا نے خاص طور پر غیر مانوس ماحول کا کس طرح مقابلہ کیا۔


ان سب کا بہت اچھا وقت تھا!



شبابائش امیلیا!



کھیلوں کا ہفتہ

کھیلوں کا ہفتہ






جار جیا فوری بٹر فلائی بال



بٹر فلائی بال پر ایک حیرت انگیز شام کے لیے آپ سب کا شکریہ! ہم آپ کے مسلسل تعاون کے بغیر یہ نہیں کر سکتے تھے۔

ہر ایک کا تمہ دل سے شکریہ جنہوں نے ایونٹ کو سپانسر کیا، انعامات عطیہ کیے، شرکت کی، اور منصوبہ بندی اور تنظیم میں مدد کی۔ آپ کی سخاوت اور محنت سے یہ سب ممکن ہوا۔
ہمیں یہ اعلان کرتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے ہولی گروو سکول کے طلباء اور ان کے خاندانوں کے لیے 10,000£ سے زیادہ کی رقم اکٹھی کی ہے! اس سے ان کی زندگیوں میں نمایاں فرق آئے گا۔

بٹر فلائی بال کو یاد رکھنے کے لیے ایک رات بنانے کے لیے آپ سب کا شکریہ!





اسکول یونیفارم

اگر آپ کے پاس اسکول یونیفارم کی کوئی ناپسندیدہ اشیاء ہیں تو براہ کرم انہیں اسکول کو عطیہ کرنے پر غور کریں۔

کسی بھی عطیات کی بہت تعریف کی جائے گی آپ کی مسلسل حمایت کے لیے آپ کا شکریہ!

Important Dates

منگل 25 جون کھیلوں کا دن

بدھ 26 جون حسی اورینٹیرنگ

جمعہ 28 جون مکاتن ورکشاپ

منگل 18 جون فیملی فورم



عملے کی ترقی

26 جون بروز بدھ
شام 3 بجے تا 4:30 بجے



کلاس ٹیم میٹنگز

ہولی گرو میروز



آنزلنگ کی کلاس - آیان اور لقمان

کیٹی کی کلاس - جیڈ

سامنتھا کی کلاس - آیات

ربیکا کی کلاس - زلیخا

لورا کی کلاس - آرچی ایل اور کائل

ڈینیئل / کونر کی کلاس - اوکلی - روز

جولی کی کلاس - زیک

مائیکل کی کلاس - منھا

کورٹنی کی کلاس - لوگن

جوش کی کلاس - یحییٰ

الیکس کی کلاس - ابراہیم

لیبی کی کلاس - ویرین



آپ اسکول کی ویب سائٹ پر ہماری تمام پالیسیوں اور رازداری کے نوٹس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔
www.holly-grove.lancs.sch.uk



HAPPY BIRTHDAY



عملہ

کوئی عملہ نہیں۔

بچے

کیٹو

Joyful June 2024

MONDAY

TUESDAY


WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

SUNDAY



3 Re-frame a worry and try to find a helpful way to think about it




4 Take a photo of something that brings you joy and share it



5 Think of 3 things you're grateful for and write them down



6 Get out into green space and feel the joy that nature brings



7 Do something healthy which makes you feel good

1 Decide to look for what's good every day this month

2 Say positive things in your conversations with others

10 Bring joy to others by doing something kind for them

11 Eat good food that makes you happy and really savour it

12 Write a gratitude letter to thank someone

13 Take a light-hearted approach. Choose to see the funny side

14 Share a happy memory with someone who means a lot to you

15 Look for something to be thankful for where you least expect it

16 Speak to others in a warm and friendly way

17 Take time to notice things that you find beautiful

18 Look for something good in a difficult situation

19 Get outside and find the joy in being active

20 Rediscover and enjoy a fun childhood activity

21 Send a positive note to a friend who needs encouragement

22 Watch something funny and enjoy how it feels to laugh

23 Create a playlist of uplifting songs to listen to



24 Bring to mind a favourite memory you feel grateful for

25 Show your appreciation to people who are helping others

26 Make time to do something playful, just for the fun of it

27 Be kind to you. Do something that brings you joy

28 Notice how positive emotions are contagious between people

29 Share a friendly smile with people you see today

30 Make a list of the joys in your life (and keep adding to it)



ACTION FOR HAPPINESS

Happier · Kinder · Together





PUPIL HOLIDAY DATES – 2023 / 2024

Autumn Term 2023

Re-open **Wednesday 6 September 2023**

Half Term **5 days** **Monday 23 October**
Friday 27 October (Inclusive)

Re-open **Monday 30 October**

Christmas - *Closure after school on Friday 22 December 2023*

Spring Term 2024

Re-open **Monday 8 January 2024**

Half Term **5 days** **Monday 12 February to**
Monday 19 February (Inclusive)

Re-open **Tuesday 20 February**

Easter - *Closure after school on Thursday 28 March 2024*

Summer Term 2024

Re-open **Monday 15 April 2024**

May Day **1 day** **Monday 6 May**

Half Term **5 days** **Monday 27 May to**
Friday 31 May (Inclusive)

Re-open **Monday 3 June**

Summer – *Closure after school on Friday 19 July 2024*